

Which subject is known as mother of all the sciences؟ کونسا علم تمام سانیسی علوم کا ماخذ کہلاتا ہے؟

- A. Mathematics ریاضی
- B. Physics فزکس
- C. Geography جغرافیہ
- D. Chemistry کیمسٹری

ANSWER: C

The air which surrounds the earth is called زمین کے گرد پھیلا ہوا ہوا کا غلاف کہلاتا ہے

- A. Lithosphere کرہ حجری
- B. Atmosphere کرہ ہوا
- C. Hydrosphere کرہ آب
- D. Biosphere کرہ حیات

ANSWER: B

The theory that all celestial bodies revolve around the earth was presented by تمام اجرام فلکی زمین کے -

گرد گھومتے ہیں کا نظریہ کس نے پیش کیا؟

- A. Ptolemy پٹولمی
- B. Copernicus کوپرنیک
- C. Aristotle ارسطو
- D. Socrates سقراط

ANSWER: A

Our solar system consists of how many stars؟ ہمارے نظام شمسی میں کتنے ستارے ہیں؟ -

- A. Six چھ
- B. Seven سات
- C. Eight آٹھ
- D. Nine نو

ANSWER: D

Time period of sun's rotation is؟ سورج کی محوری گردش کا دورانیہ کتنا ہے؟

- A. 25 days ۲۵ دن
- B. 26 days ۲۶ دن
- C. 27 days ۲۷ دن
- D. 28 days ۲۸ دن

ANSWER: A

On what day the sun shines over tropic of cancer؟ کس دن سورج خط جدی پر چمکتا ہے؟

- A. 22 December ۲۲ دسمبر
- B. 21 March ۲۱ مارچ
- C. 21 June ۲۱ جون
- D. 22 September ۲۲ ستمبر

ANSWER: C

The approximate age of the Earth is زمین کی تقریباً عمر ہے

- A. 90 Million years ۹ کروڑ سال
- B. 100 Million years ۱۰ کروڑ سال
- C. 110 Million years ۱۱ کروڑ سال
- D. 120 Million years ۱۲ کروڑ سال

ANSWER: B

The amount of Oxygen and Nitrogen in the atmosphere is ؟ ہوا میں آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار کتنی ہے؟

- A. 21% فیصد ۲۱
- B. 50% فیصد ۵۰
- C. 78% فیصد ۷۸
- D. 99% فیصد ۹۹

ANSWER: D

The part of the atmosphere which touches the earth is called - کرہ ہوا کا وہ حصہ جو زمین کو چھوتا ہے کہلاتا ہے -

- A. Troposphere زیریں حصہ
- B. Stratosphere وسطیٰ حصہ
- C. Ionosphere بالائی حصہ
- D. None of them کوئی بھی نہیں

ANSWER: A

All water bodies on the earth surface collectively called - زمین پر تمام آبی اجسام کہلاتے ہیں -

- A. Lithosphere کرہ حجری .
- B. Atmosphere کرہ ہوا
- C. Hydrosphere کرہ آب
- D. Biosphere کرہ حیات

ANSWER: C

The amount of Carbon Dioxide in the atmosphere is - ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار ہے -

- A. 4% فیصد ۴
- B. 1% فیصد ۱
- C. 0.1% 0.1 فیصد
- D. 0.03% 0.03 فیصد

ANSWER: D

The atmospheric pressure at sea level (in pounds) is - سطح سمندر پر ہوا کا دباؤ پونڈ میں ہے -

- A. 14 ۱۴
- B. 14.7 ۱۴.۷
- C. 15 ۱۵
- D. 16 ۱۶

ANSWER: B

The weight of one cubic foot air is in normal condition -۱۳ عام حالات میں ایک مکعب فٹ ہوا کا وزن ہے -

- A. 1.5 Ounce ۱.۵ اونس
- B. 2 Ounce ۲ اونس
- C. 2.5 Ounce ۲.۵ اونس
- D. 3 Ounce ۳ اونس

ANSWER: A

What is the absolute location of tropical low pressure belt? اسٹونئی کم دباؤ والے علاقے کا محل وقوع

- ۱۴ ہے -
- A. 10° N to 10° S latitude
- B. 20° N to 20° S latitude شمالی تا ۲۰° جنوبی عرض بلد ۲۰°

- C. 35° N to 45° N latitude      شمالی تا ۴۵° شمالی عرض بلد ۳۵°  
D. 35° S to 45° S latitude      ۳۵° جنوبی تا ۴۵° جنوبی عرض بلد°

ANSWER: A

عمل ترشح کی کتنی قسمیں ہیں؟ - ۲۰

- A. Five      پانچ  
B. Four      چار  
C. Three      تین  
D. One      ایک

ANSWER: C

Astronomical survey uses the observations of the.

- A. Earth  
B. Ground  
C. Sun & Stars  
D. Labs

ANSWER: C

Pivot is provided at the center of the compass and supports.

- A. Magnetic Needle  
B. Casing  
C. Cover  
D. Cap

ANSWER: A

Traversing with the compass involves taking the bearing along a series of.

- A. Connecting Straight Lines  
B. Objects  
C. Fields  
D. Towns

ANSWER: A

Compass is used for fixing.

- A. Direction
- B. Station
- C. Objects
- D. Instruments

ANSWER: A

In traversing the starting and end points are the.

- A. Different
- B. Same
- C. Parallel
- D. Horizontal

ANSWER: B

The difference between BB and FB is always.

- A. 100°
- B. 90°
- C. 180°
- D. 270°

ANSWER: C

Angle of Declination is the angle between the direction of the magnetic meridian and the.

- A. True Meridian

B. Prime Meridian

C. Parallel

D. Vertical

ANSWER: A

Zero to 360°, increasing in clockwise direction known as.

A. Reduced Bearing

B. Whole Circle Bearing

C. Fore Bearing

D. Back Bearing

ANSWER: B

Chain or tape is used for.

A. Angular Measurements

B. Linear Measurements

C. Vertical Measurements

D. Special Measurements

ANSWER: B

The difference between True Meridian and Magnetic Meridian is called.

A. High Meridian

B. Magnetic Declination

C. Low Latitude

D. High Latitude

ANSWER: B

Land surveying is basically an art and science of mapping and.

A. Measuring Land

B. Scaling

C. Writing

D. Reading

ANSWER: A

Pacing is used in reconnaissance surveys for.

A. Long Distances

B. Measuring small Distance

C. Roads

D. Railways

ANSWER: B

The direction indicated by a magnetic compass is called as.

A. Magnetic Meridian

B. North Pole

C. South Pole

D. Prime meridian

ANSWER: A

For revealing the earth pattern cartographer collects the \_\_\_\_\_ and renders them on a map.

A. Maps

B. Information

C. Data

D. Measurements

ANSWER: D

1 foot is equal to.

A. 10 inch

B. 12 inch

C. 14 inch

D. 18 inch

ANSWER: B